

# پنج گنج قادریؒ

— اوراد قادریہ : کبریتِ احمد —  
— قصیدہ قطبیہ : قصیدہ غوثیہ —  
— چہل کاف —



اسلامی کتب خانہ

اقبال روڈ، سیالکوٹ



ان عن اللہ اکل فی شہرہ قدریہ

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

— منے کا پتہ —

\*\*\*\*\*

اسلامی کتب خانہ، اقبال روڈ

سیالکوٹ



محمد ﷺ و نصلی علی رسولہ الکریم

## عرضِ ناشر

اللہ ذوالجلال کے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کے  
چشم و چراغ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے

اورادِ قادریہ، درود کبریٰ<sup>۱</sup> احمر، قصیدہ غوثیہ<sup>۲</sup>،  
قصیدہ قطبیہ اور پمشل کا ف بہت سے بزرگ

بطور وظیفہ پڑھتے ہیں

عَنِ اَنْفَاقِ هِيَ كَذِكُورِهِ وَطَائِفِ كَا مَجْمُوعِهِ بِبَيْعِ كَيْفِ قَادِرِ هِيَ كَيْ  
— نام سے کشمیر کا مطبوعہ نسخہ، بقیۃ السلف حضرت مولانا سید غلام محمد شاہ  
صاحب قادری مدظلہ العالی نے عطا فرمایا اور ساتھ ہی اُسے شائع کرنے کا ارشاد  
فرمایا۔ قبلہ شاہ صاحب موصوف کا نسخہ بلا ترجمہ تھا، عوام کے فائدہ کے لئے ادارہ  
نے ترجمہ شامل کر دیا ہے۔ اگر صاحب علم حضرات اس کے ترجمہ یا اصل میں کوئی غلطی پائیں  
تو ہمیں اطلاع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔

(ادارہ)



# اَزْلَانِ قَادِرِيَه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ (سہ بار) الَّذِیْ

میں بخشش چاہتا ہوں خدائے بزرگ سے وہ خدا

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ

کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اسکے وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور

اِلَيْهِ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ ط اللّٰهُمَّ اَنْتَ

میں پھرتا ہوں اسکی طرف اور سوال کرتا ہوں اس کو توبہ کا۔ اے اللہ تو

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ

ہر نقصان پاک ہے اور تجھی سے مخلوق کی سلامتی ہے اور تیری سلامتی

السَّلَامُ حِيْنَآ رَبَّنَا يَا سَّلَامُ وَاَدْخِلْنَا

پھرتی ہے تو ہمیں زندہ رکھ اے ہمارے رب سلامتی کیساتھ۔ اور داخل کر ہمیں



دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

بہشت میں بڑا برکت والا ہے تو اے ہمارے رب اور بہت بلند

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ

ہے تو اے بزرگی اور فضل والے - اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُؤَاتِي فِي نِعَمِكَ

تیرے ہی لئے تعریف ہے ایسی تعریف کہ وفا کرے تیری نعمتوں

وَيُكَافِي مَزِيدَ كَرَمِكَ أَحَدُكَ

کیسا تھا اور برابر ہی کرے تیرے کرم کی زیادتی کیسا تھا۔ میں تیری ثنا

بِحَمِيْعٍ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

کرتا ہوں تمام خوبیوں کے ساتھ جن کو میں جانتا ہوں۔

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى جَمِيْعٍ نِعَمِكَ

اور جن کو میں نہیں جانتا اور تیری سب نعمتوں پر جن کو

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى

میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور ہر



كُلِّ حَالٍ يَا مُحَوِّلَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ

حال پر اے حالات کو بدلنے والے ۔ ہماری حالت

حَالِنَا إِلَى أَحْسَنِ الْحَالِ بِحَقِّ

بدل دے اچھی حالت کی طرح بظہیر

أَفْضَلِ الْمَقَالِ ۖ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

افضل مقال ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

شیطان مردود سے اللہ کے نام شروع ہو

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

بڑا مہربان رحمت والا ہے ۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک

الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ

سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا ہے روز

يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

جزا کا مالک ۔ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں



تَسْعِينَ إِفْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

سہ سو سیدھے راستہ پر چلا

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ

الضَّالِّينَ وَاللَّهُمَّ كُودَا إِلَهُ وَوَاحِدٌ

گمراہوں کا اور تمہارا معبود ایک معبود ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اسکے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ قائم رہنے والا

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي

ہے اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ



السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ کون ہے

الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے وہ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ

جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

وہ نہیں پاتے اسکے علم میں مگر جتنا کہ وہ چاہے

إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَللّٰهُ اِلٰهٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ

اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آئی اور وہ

الْقَيُّوْمُ مَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تم پر سچی کتاب اتاری اگلی

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ اور اس نے اس سے پہلے

وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ

توریت اور انجیل اتاری۔

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ

لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ

الْفُرْقَانَ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا

اتارا۔ اللہ نے گواہی دی کہ اسکے سوا کوئی



إِلَهَ الْأَمْوَالِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأُولَئِكَ

معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

انصاف سے قائم ہو کر اسکے سوا کوئی

إِلَهُهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

عبارت کے لائق نہیں وہ عزت والا حکمت والا ہے

وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ

اور ہم وہی گواہی دیتے ہیں جو اللہ نے گواہی دی

بِهِ وَنَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ

اور ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ شہادت

وَهِيَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَدِيْعَةٌ

اور ہماری یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت ہے

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

بیشک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے



قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي

یوں عرض کر: اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے

الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ

سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ

جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو

تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِيدِكَ الْخَيْرُ

ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ

تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ

دن میں ڈالے۔ اور مردہ سے زندہ نکالے



مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

اور زندہ سے مردہ نکالے . اور

الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ

جسے چاہے بے گنتی دے .

حِسَابٍ اللَّهُمَّ ارِنَا لِقَاءَكَ

اے اللہ! ہمیں اپنا بزرگ دیدار

الْكَرِيمِ بِلَا حِسَابٍ وَلَا

عطا کر بغیر حساب اور

عَذَابٍ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ

عذاب کے . پاک ہے اللہ اور سب خوبیاں

لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے . بے شک اللہ



وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ

اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی (غیب بتانے والے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

پر۔ اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

بھیجو۔ اے اللہ! درود بھیج ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

آقا (حضرت) محمد اپنے بندے اور

وَحَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

اپنے حبیب اور اپنے نبی اور اپنے رسول

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

نبی امی پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ رِضَىٰ

اور ان سب پر برکتیں اور سلام نازل فرما راضی ہو



اللَّهُ تَعَالَى عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی آل اور تمام

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ

صحابہ کرام سے - اور نیکی میں

التَّابِعِينَ وَتَبِعِ التَّابِعِينَ

ان کے تابعین اور تبع تابعین سے

لَهُمْ بِأِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

روز جزا تک اور

وَعَنْ سَيِّدِنَا وَسَدِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اراضی ہو اللہ تعالیٰ، ہمارے سرور اور ہمارے

وَمُرْشِدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ

سہارا اور ہمارے مولا اور ہمارے مرشد شیخ محی الدین

أَبِي مُحَمَّدٍ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

ابو محمد شیخ عبد القادر



الْجِلَانِي الْمَكِينِ الْآمِينِ

جیلانی مکین اور امین سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بیشک تُو ہی سنا

الْعَلِيُّوسُجَّانَ رَبِّكَ رَبِّ

جانتا ہے پاک ہے تمہارا رب عزت

الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

والا رب ان دکافروں کی باتوں سے اور سلام

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط اللَّهُمَّ إِنَّا

جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے اللہ عطا کر ہمیں

خَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الْآخِرَةِ

دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔



وَاصْرِفْ عَنْ شَرِّ الدُّنْيَا

اور پھیر دے ہم سے دنیا کا شر

وَشَرِّ الْآخِرَةِ يَا إِلَهَ الْاَوَّلِينَ

اور آخرت کا شر اے سب اولین و آخرین

وَ الْاٰخِرِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ

کے معبود اے عظمت اور

وَ الْاِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا

بزرگی والے اپنی رحمت کے ساتھ

اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



اے آنکہ توئی خدائے غوثِ ثلثین

خواجهِ یس ز تورضائے غوثِ ثلثین

از حبلہٴ آفاتِ نگہِ دارِ مرا

ہر دو جہاں برائے غوثِ ثلثین

یارِ بکمالِ استِ شہِ جیلانی

کہ اندر کرم و لطفِ ندادِ رسانی

کن باطنِ ماصافِ بیکیِ جلوِ او

آلودہ مکن با عرضِ نفسانی



اول و آخر یازدہ مرتبہ بخوانند

اول اور آخر گیارہ مرتبہ پڑھیں

اللَّهُ مُوصِلٌ عَلَيْنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و حضرت، محمد پر

مَطَهْرٍ الْجَلِيلِ وَالْجَمَالِ

جو مطہر ہیں جلال اور جمال الہی کے

مِزَاتِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ مَخْزَنِ

آئینہ میں ذات و صفات الہی کے خزانہ میں

الْمَشَاهِدَاتِ مُوَصِّلِ الْعِبَادِ إِلَى

مشاہدات کے پہنچانے والے ہیں بندوں

رَبِّ الْأَرْبَابِ بِعَدَدِ كَلِمَةٍ

کوب الہیوں تک اپنی تمام معلومات کی گنتی کے

مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مطہر اور دان پر مبرکت اور سلام نازل فرما



# دُرُودِ کَبِیْرِیِّ اَلْحَمْدِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو سہت مہربان رحمت والہ ہے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ

اے اللہ! نازل فرما اپنا بہترین درود گنتی زیادہ

عَدَدًا وَاَنْتَ بَرَكَاةُكَ سَرْمَدًا

اور بڑھا اپنی برکتوں کو ہمیشہ اور زیادہ

وَاَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّمَدَدًا

فرما اپنے خاص تحفوں کا فضل اور مدد کے

عَلٰى اَشْرَفِ الْاِنْسَانِيَّةِ

طور پر انسانیت کی بزرگ ترین حقیقت

وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ

اور ایمانی باریکیوں کی کان پر



وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ

اور تجلیات احسانیہ کے

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ

بزرگ پہاڑ پر اور اسرارِ رحمانیہ کے مرکزِ نزول

وَ وَاِسْطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ وَ

اور انبیاء کے بار کے عمدہ جوہر اور

مُقَدِّمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ

رسولوں کے لشکر کے پیشرو پر ۔

وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ

اور تمام مخلوقات سے افضل ہستی پر وہ اٹھانے

لِوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَالِكِ أَرْمَةِ

والے میں عزت کا بلند ترین جھنڈا اور بزرگی کی

السُّرْفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ اسْرَارِ

چمکدار لگاموں کے مالک اسرارِ ازل کے ملاحظہ



الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّابِقِ

فرمانے والے اور مشاہدہ فرمانے والے سابق اول

الْأَوَّلِ وَتَرْجَمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ

الوار کے . اور زبان قدیم کے ترجمان اور

وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ

منبع میں علم اور بردباری اور حکمتوں

وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكَلْبِيِّ

کے اور جزئی اور کلی عمدہ بیدوں کے مظہر

وَأَنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ

اور موجودات علوی و سفلی کی آنکھ

وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَدِّ الْكَوْنِيِّنِ

ہیں اور دونوں جہان کے جسم کی جان

وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ الْمَخْلُوقِ

اور دنیا و آخرت کی زندگی کی اصل میں عبودیت



بِأَعْلَى رُتَبِ الْعِبَادِ دِيَّةَ الْمُحَقِّقِ

کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے والے اسرارِ ربوبیت کے

بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ

حق دار برگزیدہ مقامات والے پسندیدہ

الْأَصْطَفَاءِ الْكِرَامَاتِ وَالْأَرْتَضَائِيَّةِ

کرامات والے بزرگوں کے

سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ

سردار اور جمع کرنے والے

الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ

خلیل اعظم اور حبیب اکرم کے اوصاف

الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ

کو وہ مخصوص کیے گئے اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات

وَالْمَوْجِدِ بِأَوْضَحِ الْبِرِّ أَهْلِينَ

کے ساتھ اور ان کی تاکید کی گئی ہے روشن دہلیوں



وَالدَّلَالَاتِ الْمَنصُورِ بِالرُّعْبِ

اور راہنمائیوں سے ان کی مدد کی گئی ہے رعب اور

وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ

معجزات نے ساتھ۔ وہ جوہر ہیں ابدی بزرگی

الْأَبْدِيِّ وَالنُّورِ الْقَدِيمِ الْحَمْدِيُّ

والے اور نور قدیم محمدی سرمدی

السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ

ہمارے آقا حضرت محمد تعریف کئے گئے ہیں۔

فِي الْإِيْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ كُلِّ

پیدائش اور ہستی میں وہ ابتداء کرنے والے ہیں۔

شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَتِ

ہر گواہ اور گواہی دینے والے کیلئے درگاہ مشاہدہ اور

الْمُشَاهَدَةِ وَالشُّهُودِ نُورِ كُلِّ

شہود میں ہر چیز کے لئے روشنی اور ہدایت



شَيْءٍ وَهَدَاهُ وَسِرَّ كُلِّ سِرٍّ وَ

میں اور جاننے والے میں ہر راز کے اور

سَنَاةُ الَّذِي شَقَّيْتُ مِنْهُ الْأَسْرَارُ

اس کو روشن کرنے والے آپ وہ ہیں جن سے اسرار

وَانْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ

ظاہر ہوتے ہیں اور پھوٹتے ہیں ان سے انوار

وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ

آپ پوشیدہ راز ہیں اور نور ظاہر۔ سرور کامل حجت

الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ

کے درکھولنے والے نبیوں کی مہر اول آخر۔

الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْعَاشِرِ

پوشیدہ ظاہر، سب نبیوں کے بعد آنیوالے مردوں کو اٹھانے

النَّاهِي الْأَمِيرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ

بدی سے منع کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے نصیحت کرنے والے



الْحَمَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ

مدھار، سبر و شکر کرنیوالے، دعاؤ ذکر کرنے والے۔

الْمَاحِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

کفر و شرک مٹانے والے، بزرگ غالب، حمد کرنے والے

الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ التَّوَكِّلِ الزَّاهِدِ

مومن، عبادت گزار، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تارک

الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ الرَّائِعِ الشَّاجِدِ

دنیا نمازیں کھڑا ہونیوالے بیٹھنے والے رکوع و سجود کرنیوالے خدا

الْمُتَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ

کے فرمانبردار، گواہ، اللہ کے دوست سر لہے گئے، خدا

الْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمَطَاعِ الْمُخْتَارِ

کی دلیل حجت، سب کے ماننے ہوئے، مختار،

الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَجِيرِ

عاجزی و انکساری کرنیوالے، نیکو کار مدد چاہے گئے۔



الْحَقُّ الْمُبِينُ طَهْرًا وَوَلِيًّا الْمُرْتَمِلِ

حق ظاہر، طہ اور یسین لیا ف اوٹھنے والے

الْمُدَّثِّرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَامَامِ

کبل پوش سردار، رسولوں کے اور پرہیزگاروں کے

الْمُسْتَقِيمِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ

امام اور آخری نبی اور رب العالَمین

رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

کے محبوب برگزیدہ نبی چنے ہوئے

وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الْحَكِيمِ الْعَدْلِ

رسول منصف مودوں پاکیزہ خیر دار

اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ

حکمت والے - بہت دانا غالب

الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بڑے شفیق مہربان -



الْكَرِيمِ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ

بزرگ تیرے قدیم نور اور تیرا راستہ

الْمُسْتَقِيمِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

سیدھا اور بتایں والے، حضرت محمد تیرے بندہ خاص اور

وَاصْفِيكَ وَخَلِيْلِكَ وَحَبِيْبِكَ وَ

تیرے رسول اور تیرے برگزیدہ اور تیرے دوست اور حبیب

وَلِيْكَ وَنَبِيْكَ وَ اَمِيْنِكَ وَ دَلِيْلِكَ

اور تیرے ولی اور تیرے نبی اور امانت دار اور تیرا راستہ

وَ نَجِيْكَ وَ ذَخِيْرَتِكَ وَ ذَخِيْرَتِكَ

دکھانے والے اور تیرے بھراز اور تیرے برگزیدہ تیرے ذخیرہ

وَ خَيْرَتِكَ وَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ

اور تیرے مختار اور نیکی کے پیشوا اور بھلائی کے

الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ

قائد اور رسول رحمت نبی



الْأُمِّيُّ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ

اُمی عربی قریشی ہاشمی

الْأَبْطَحِيُّ الْمَكِّيُّ الْمَدَنِيُّ الْتِهَامِيُّ

ابطحی مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تہامہ

السَّاهِدُ الْمَشْرُودُ الْوَلِيُّ الْمُقَرَّبُ

والے گواہ گواہ بنائے گئے ولی خدا کے مقرب

الْعَبْدُ الْمَسْعُودُ الْحَبِيبُ الشَّفِيعُ

خوش بخت بندے خدا کے محبوب ہمارے سفارشی

الْحَسِيبُ الرَّفِيعُ الْمَلِيحُ الْبَدِيعُ

صاحب حسب و نسب بلند مرتبہ نادر حسن والے

الْوَاعِظُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ الْعَطُوفُ

نصیحت کرنے والے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان

الْحَلِيمُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الْحَلِيبُ

تحمل والے بڑے سخی کرم والے پاکیزہ



السُّبَّارِكُ السَّكِينُ الْمَصَادِقُ الْمَصْدُوقُ

برکت والے صاحب مرتبہ سچے سچے کئے

الْأَمِينُ الدَّاعِي إِلَيْكَ يَا ذُنُكُ

امانتدار دعوت دینے والے مخلوق کو۔ تیری طرف تیرے علم سے

السِّرَاحُ السُّنِيرُ الَّذِي أَدْرَكَ

روشن آفتاب ایسے کہ انہوں نے جان لیا اصل چیزوں کو

الْحَقَّ آتِقَ بِجُمَّتِهَا وَفَارَ وَفَاوَتْ

تمام و کمال اور کامیاب ہو گئے اور فوقیت لے گئے

الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلْتَهُ

ساری خلقت پر اور بنایا تو نے ان کو

حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَأَدْنِيَةً

محبوب اور اپنا ہمساز بنایا قرب کی حالت میں اور تو نے

رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ

انہیں اپنا قرب خاص بخشا خاتمت کرتے ہوئے اور ختم



الدَّلَالَةَ وَالْإِشَارَةَ وَالسِّدْرَةَ

کروئی تونے ان پر رسالت اور راہنمائی اور خوشخبری اور ڈرانا

وَالنَّبُوَّةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ

اور نبوت اور تونے ان کی مدد کی رعب کے ساتھ ۔

وَظَلَّتْهُ بِالسُّحْبِ وَرَدَدَتْ لَهُ

اور تونے ان پر ابر کا سایہ کیا اور تونے ان کی دعا سے

السَّمْسِ وَشَقَّتْ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقَتْ

سورج واپس پھیر دیا اور ان کے لئے دو ٹکڑے کر دیا جیاند

لَهُ الصَّبَّ وَالظَّبْيَ وَالذِّئْبَ وَالْجُدْمَ

کو اور تونے گویا کیا ان کیلئے سوسمار اور بہرن، بھیڑیلا، درخت

وَالذِّرَاعَ وَالْجَمَلَ وَالْحَبْلَ وَالْمَدْرَ

کاتنا اور بکری کا بازو، اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیللا اور

وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَأَنْبَعَتْ مِنْ

درخت اور پتھر اور تونے نکالا ان کی انگلیوں سے



أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزُّلَّالَ وَأَنْزَلْتَ

میٹھا پانی اور تونے اتارا سینہ

مِنَ الْمُرْتِنِ بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ

بادل سے۔ ان کی دعا کیساتھ قحط اور

الْمَحَلِّ وَالْجَدْبِ وَأَيْلَ الْعَيْثِ

خشکی کے سال میں بڑی بوندوں والاینہ اور بارش

وَالْمَطْرِ فَاَعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفَرُ

پھر ہری بھری ہو گئی اس سے زمین خشک

وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ

اور پتھریلی اور سخت و نرم زمین اور سرسبز ہو گئے ریگستان

وَالْحَجَرُ وَالْمَدْرُ وَأَسْرَيْتَ بِهِ

اور پتھر اور درخت اور کیڑ اور تونے سیر کرایا

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

ان کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد کعبہ سے مسجد



الْأَقْصَىٰ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ إِلَىٰ

اقصىٰ تک پھر سب سے بلند آسمانوں اور

سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

سدرۃ المنتہیٰ تک اور دو کمانوں کے ملنے

أَوْ أَدْنَىٰ وَأَرَبَيْتَهُ الْإِيَةَ الْكُبْرَىٰ

یا اس سے بھی زیادہ قریب تک اور تو نے

وَأَنْزَلْتَهُ الْعُجَابَةَ الْقُصْوَىٰ وَأَكْرَمْتَهُ

انہیں بہت بڑی نشانی دکھائی اور تو نے انکو پہنچا دیا انتہائی

بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ

بلند مرتبہ پر اور تو نے انہیں بزرگی عطا فرمائی اپنی ہمکلامی اور

وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايِنَةَ بِالْبَصِيرِ

نگہبانی سے اور قریب خاص اور حضوری کی اور اپنی زیارت

وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَىٰ وَ

کرائی آنکھوں سے وائے اللہ تو نے انہیں مخصوص فرمایا انہیں



الشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ الْفَرَجِ

وسیلہ عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کیساتھ بڑے گھبراہٹ کے

الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَجَمَعَتْ لَهُ جَوَامِعَ

دن محشر میں اور تولے جمع کئے ان کیلئے جامع کلمات

الْكَلِمِ وَجَوَاحِرِ الْحِكْمِ وَجَعَلَتْ

اور حکمت کے سوتی اور کردیا تولے ان کی

أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَعَفَّرَتْ لَهُ مَا

امت کو سب امتوں سے بہتر اور تولے بخش دیئے ان

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي

کیوجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ . حضور وہ ہیں

بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَآدَى الْأَمَانَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ

جنہوں نے تبلیغ رسالت اور امانت ادا کر دی اور امت

وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَجَلَى الظُّلْمَةَ

سے خیر خواہی کی اور غم و محزن دور فرمایا اور کفر کی تاریکی کو



فَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبْدَ رَبِّهِ

روشنی سے بدل دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد فرمایا اپنے رب کی

حَتَّىٰ آتَاَهُ الْيَقِينُ ۗ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ

عبادت کی یہاں تک کہ انہیں حق یقین حاصل ہو گیا۔ اے اللہ!

مَقَامًا مَّحْمُودًا يَغِيظُهُ فِيهِ الْاَوْلُونَ

انہیں مقام محمود پر پہنچا کہ رشک کرینگے ان پر پہلے اور

وَ الْاٰخِرُونَ ۗ اَللّٰهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا

پچھلے۔ اے اللہ! ان کی عظمت زیادہ فرما دنیا

بِاَعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَاِظْهَارِ دِينِهِ وَ

میں انکا ذکر بلند کرنے اور انکا دین غالب کرنے سے اور

اِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ وَفِي الْاٰخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ

ان کی شریعت پاک کو باقی رکھنے سے اور آخرت میں انکی

فِي اُمَّتِهِ وَاَجْرُهُ اَجْرَةٌ مَثُوْبَةٌ

شفاعت قبول کرنے سے انکی امت کے حق میں اور عطا کر انکو



قَابِدُ فَضْلَهُ لِلأَوَّلِينَ وَالأَخِيرِينَ

اسکا اجر اور ثواب اور ہمیشہ انکی فضیلت اولین و آخرین پر

بِالمَقَامِ المَحْمُودِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَا

مقام محمود میں اور راہنما بنا ان کو تمام

كَافَّةً مِنَ الْمُقَرَّبِينَ بِالشُّهُودِ اللّٰهِ

حاضر مقربوں کا ۔ اے اللہ! قبول

تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ

فرما انکی بڑی شفاعت اور بلند فرما

دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي

ان کا عالی مقام اور عطا کر انکو منہ مانگا سوال

الأخِرَةِ وَالأَوَّلِ كَمَا اتَّيَتْ إِبْرَاهِيمَ

آخرت اور دنیا میں جیسا کہ عطا کیا تو نے حضرت ابراہیم

وَمُوسَى ۗ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ

اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو ۔ اے اللہ! کر انکو اپنی



عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً

بارگاہ میں اپنے بزرگ ترین بندوں سے بزرگی و کرامت

وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَ

کے طور پر اور ان سب سے بلند فرما اپنے نزدیک ان کا درجہ

مِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَمِنْ

اور بزرگ تر فرما ان کا قدر اپنے پاس اور زیادہ

أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً ۝ اللَّهُمَّ

طاقتور فرما ان کو اپنے دربار میں از روئے شفاعت اے اللہ

عَظِيمُ بُرْهَانُهُ وَأَبْلَجُ حُجَّتِهِ وَ

باعظمت فرما ان کی دلیل اور ظاہر فرما انکی دلیل نبوت

أَبْلَغُهُ مَأْمُولُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

کو اور انکی ارزو پوری فرما۔ ان کے اہل بیت اور

وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

اولاد کے بارے میں۔ اے اللہ! پہنچا انکو اولاد اور



وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرَّبُ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزُهُ عَنَّا

امت کی طرف سے وہ چیز جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی

خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ

ہوں اور انکو جزائے خیر عطا فرما ہماری طرف سے جیسا دی تو نے ہر

وَأَجْزِ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا اللَّهُمَّ

ایک نبی کو اسکی امت سے اور جزائے نیک عطا کر تمام انبیاء کو، اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ! درود و سلام بھیج ہمارے سردار حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم

عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَ

جس قدر دیکھیں ان کو آنکھیں اور جتنے

سَمِعَتْهُ الْأُذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

کان ان کو سنیں اور ان پر درود و سلام بھیج

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

انکی گنتی کے مطابق جو درود ان پر بھیجیں اور درود و سلام بھیج



عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَوْ يُصَلُّ عَلَيْهِ وَ

ان پر بشارت ان کے جو درود نہ بھیجتے ہوں اور

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَ

درود و سلام بھیج ان پر جیسا تو چاہے اور پسند فرمائے

تُرْضَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

کہ ایسا درود بھیجا جائے اور درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

جیسا کہ تو نے حکم فرمایا کہ ایسا درود بھیجیں ان پر

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي

اور درود و سلام بھیج ان پر جیسا کہ درود بھیجا

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جانا چاہیے۔ اے اللہ! درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ان پر اور ان کی آل پر اپنی بے شمار نعمتوں اور



وَافْضَالِهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

فضلوں کے مطابق۔ اے اللہ! درود و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

ہمارے آقا حضرت محمد پر اور ان کی آل و اصحاب

وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَ

پر، اور انکی اولاد اور بیٹیوں اور ان کی ذریت پر اور

عَثْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ

ان کے گھر والوں اور انکی عثرت اور ان کے رشتہ داروں پر اور

وَأَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

انکے خوسر اور داماموں پر اور انکے دوستوں اور فرمانبرداروں اور انکے

وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةِ اسْرَارِهِ وَ

مددگاروں اور معاونین پر جو نگہبان ہیں انکے بھیدوں کے اور

مَعَادِينِ انْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقِّ اَيُّق

کانیں ہیں ان کے انوار کی اور حقیقتوں کے خزانے اور



فَهْدَاةِ الْخَلَائِقِ نُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ

مخلوقات کے راہنما ستارے ہیں ہدایت کے

لِسِّنِ اقْتَدَى بِهِمْ وَسَلِّمْ وَسَلِيمًا

ان کے لئے جو انکی پیروی کریں۔ اور سلام فرما جیسا کہ سلام

كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَارْضَ عَنْ كُلِّ

کام حق ہے۔ بہت زیادہ ہمیشہ ہمیشہ اور تو راضی ہو جا تمام

الصَّحَابَةِ رِضَى سَرْمَدًا عَدَدًا

صحابہ پر ہمیشہ کی رضا مندی اپنی مخلوق

خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَا

کی گنتی کے مطابق اور اپنے عرش کی مقدار وزن اور اپنی رضا

نَفْسِكَ وَمِثْلَ أَدْوَابِكَ كَلِمًا

مندی اور اپنے کلمات کی تعداد کے مطابق جب بھی

ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَرَفَ

یاد کریں تجھ کو یاد کرنے والے اور جب بھی سمجھیں



ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ صَلَوَةٌ تَكُونُ

تیرے ذکر کو غافل لوگ . ایسا درود جو کہ تیری

لَكَ رِضَاءٌ وَوَلِحَقِّهِ آدَاءٌ وَلِنَا صَلَاحًا

رضامندی کا باعث ہو انکے حق میں ادا اور ہمارے لئے بہتری

وَأَيْتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

اور عطا کر انہیں مقام وسیلہ اور بزرگی اور مرتبہ

الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ

بلند و بالا اور پہنچا انکو مقام

الْمَحْمُودِ وَاللِّوَاءِ الْمُحْفُودِ وَالْحَوْضِ

محمود اور دے ان کو وہ جھنڈا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حوض

الْمُورُودِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ

کہ جس پر وارد ہونگے لوگ اور رحمت بھیج یا الہی ان کے تمام

إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

بھائیوں پر جو کہ نبی اور رسول ہیں



وَالْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

اور ولیوں اور صالحین پر اور اپنے

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ

مقرب فرشتوں پر اور ہمارے سردار شیخ

مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ

محمد الدین ابو محمد عبد القادر

الْجِيلَانِيِّ الْمَكِينِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ

جیلانی پر جو صاحب مرتبہ اور امین ہیں اللہ کی

اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

رحمتیں اور سلام اسکا ان تمام پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود سلام بھیج ہمارے آقا حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد اور ہمارے سردار حضرت محمد کی آل پر



السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ الرَّحْمَةِ

جن کا نور سب خلقت سے پہلے پیدا ہوا رحمت ہے

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ مَا مَعْنَى

تمام جہانوں کیلئے انکا ظہور۔ اپنی گزشتہ مخلوق

مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ

کی تعداد کے مطابق اور جو مخلوق باقی ہے۔ اور ان میں

مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوَةٌ تَسْتَعْرِقُ

سے نیک بختوں اور بد بختوں کی گنتی کے برابر ایسا درود کہ

الْعَدَّةَ وَتَحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَوَةٌ لَا

گنتی کو گھیر لے اور احاطہ کر لے آخری حد کا ایسا درود جس کی

غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا اَمَدَ لَهَا

انتہا نہیں اور نہ نہایت اور نہ اس کا اندازہ اور

وَلَا انْقِصَاءَ صَلَوَتِكَ الَّتِي صَلَّيْتُ

نہ پورا ہونا تیرا وہ درود جو تو نے



عَلَيْهِ صَلَوَةٌ مَعْرُوفَةٌ عَلَيْهِ

بھیجا ان پر ۔ پیش کیا گیا ان پر

مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوَةٌ

مقبول ان کے ہاں اور انہیں پیارا ہو درود

دَائِمَةٌ يَدَاؤُكَ وَبَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ

ہمیشہ رہنے والا تیرے ہمیشگی کے ساتھ اور باقی رہنے والا تیری

لَا مُنْتَهَاهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَوَةٌ

بقا کیساتھ تیرے علم کے سوا اسکی کوئی انتہا نہ ہو ایسا درود

تُرْحَمُكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى

جو تجھے خوش کرے اور انہیں خوش کرے اور اسکے سبب

بِمَاعَنَا صَلَوَةٌ تَسْلَأُ الْأَرْضَ

تو ہم پر رخصی ہو جائے ۔ ایسا درود جو بھر دے زمین اور

وَالسَّمَاءَ صَلَوَةٌ تَسْجِيْبُ بِهَا

آسمان کو ۔ ایسا درود کہ جس کے سبب تو قبول فرمائے



دُعَاءَنَا وَتُزَكِّي بِهَا نَفُوسَنَا

ہماری دعائیں اور تو پاک کرے اس کی وجہ سے ہمارے نفسوں کو

وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِهَا

اور ہمارے دل زندہ فرمائے اور حل کی جائیں جس

الْعُقَدُ وَتُفَرِّجُ بِهَا الْكُرْبُ

سے ہماری مشکلیں اور دور کی جائیں اس کے سبب سختیاں

وَيَجْرِي بِهَا لُطْفُكَ فِي أَمْرِي

اور جاری ہو اسکی وجہ سے تیری مہربانی میرے کام میں

وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَارِكْ لَنَا

اور تمام مسلمانوں کے کاموں میں اور ہمیشہ ہمیں برکت

عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَ

دے اور ہمیں معاف فرما اور ہدایت عطا کر

أَمُدِدْنَا وَجَعَلْنَا أَمِينًا وَوَلِيًّا

اور ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنی امان میں کرے اور



لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا

ہمارے کام آسان کر دے ہمارے دلوں کی خوشی اور

وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ

ہمارے بدنوں کے آرام کیساتھ اور سلامتی اور عافیت بخش

فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا

ہمیں ہمارے دین اور دنیا میں اور ہماری آخرت میں

وَتَوْفُّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

اور ہمارا خاتمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

وَأَجْمَعُنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

پر جمع کر ہمیں حضور کے ساتھ جنت میں سخت عذاب

عَذَابٍ بَيِّنٍ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا

کے بغیر اور تو ہم سے راضی ہو جا

غَيْرِ غَضَبٍ وَلَا تَمَكُّرِنَا

بغیر غصہ کے اور نہ آزما ہم کو



وَ اٰخِیْرًا لِّنَا مِنْكَ بِخَیْرٍ وَّ

اور اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ بخیر کر دے

عَافِیَةً بِلَا مِحْنَةٍ اَجْمَعِیْنِ

اور عافیت بخش بغیر محنت کے سب کے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

پاک ہے تمہارا رب عزت والا رب

عَمَّا یَصِفُوْنَ وَّ سَلَامٌ عَلٰی

ان کافروں کی باتوں سے اور سلام ہے

الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو ہیں

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

جو سارے جہان کا رب ہے



# التَّصْيُّدُ الطُّيْبُ

مَا فِي الصَّبَابَةِ مِنْهُلٌ مُسْعَدٌ

عشق کی سورش میں کوئی گھاٹ نہیں اور نہ ٹیٹھا پانی مانگا جاتا ہے

الْأُولَىٰ فِيهِ الْأَلَذُّ الْأَطْيَبُ

لیکن میرے لئے اس میں زیادہ لذت اور عمدگی اٹھا س ہے

أَوْ فِي الْوِصَالِ مَكَانَةٌ مَخْصُوصَةٌ

یا وصال میں ایک مخصوص مرتبہ ہے

إِلَّا وَمَنْزِلَتِي أَعَزُّ وَأَقْرَبُ

مگر میرا مقام بہت عزت والا اور قریب ہے

وَهَبْتُ لِي الْأَيَّامَ رَرُونَ صَفْوَهَا

زمانے نے اپنی خالص (عمدہ) رونق (محبت) مجھے دے دی



فَحَلَّتْ مَنَاهِلَهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ

تو اس کے گھاٹ آباد ہو گئے اور پانی میٹھا ہو گیا

وَعَذْوَتٌ مَخْطُوبًا لِّكُلِّ كَرِيمَةٍ

اور مجھ سے خطاب کیا ہر تابل تعریف چیز نے

لَا يَهْتَدِي فِيهَا اللَّيْبُ فَيُخْطَبُ

نہیں راہ پاتا اس میں کوئی عاقل کہ اسے خطاب کیا جائے

أَنَا مِنْ رِّجَالِ الْأَخْيَانِ جَلِيْسُهُمْ

میں ان مردوں سے ہوں کہ جن کے ہم نشین نہیں ڈرتے

رَيْبَ الزَّمَانِ وَلَا يَرِي مَا يَرْهَبُ

زمانہ کی گردش سے اور وہ دیکھتے ہی نہیں اس چیز کو جو خوفزدہ کرے

قَوْمٌ لَهُمْ فِي كُلِّ فِجْدٍ رُتْبَةٌ

ان کی قوم کے لئے ہر بلند ہی میں اعلیٰ مرتبہ ہے

عَلَوِيَّةٌ وَبِكُلِّ جَيْشٍ مَرْكَبٌ

اور ہر لشکر میں سوار ہونے میں



أَنَا بَلْبَلُ الْأَفْرَاحِ أَمْلَادُ وَحَرَا

میں بچوں کی بلبلس ہوں میں نے بھر دیا ہے انکے سایہ دار درخت کو

طَرِبًا وَقِي فِي الْعُلْيَاءِ بَارِ أَشْهَبُ

خوشی سے اور میں عالم بالا میں ایک طاقت ور باز ہوں

أَصْحَتْ جِيُوشِ الْحَبِ تَحْتِ مَشِيئَتِي

محبت کے لشکر میری مرضی کے مطابقت فرما کر ہیں

طَوْعًا وَمَهْمَا رُمْتُهُ لَا يَعْذِبُ

اور جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ بیٹھا نہیں ہوتا

أَصْبَحْتُ لَا أَمْلًا وَلَا أُمْنِيَةً

میں ایسا ہو گیا ہوں کہ نہ آرزو اور تمنا ہے

أَرْجُو وَلَا مَوْعُودَةً أَتَرْقُبُ

نہ امید نہ ان کا وعدہ کیا گیا ہے کہ میں انتظار کروں

مَا زِلْتُ أَرْتَعِي مَيَادِينِ الرِّضَا

میں آسودہ زندگی بسر کرتا رہا رضا کے میدانوں میں



حَتَّىٰ وَهَبْتُ مَكَانَهُ لِأَتُوهَبُ

یہاں تک کہ مجھے ایسا مرتبہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں دیا جاتا

أَضْحَىٰ الزَّمَانُ كَحُلَّةٍ مَّرْقُومَةٍ

زمانہ دھاری دار چھکتے ہوئے جوڑے کی طرح ہو گیا

تَرَهُوُ وَنَحْنُ لَهَا الطَّرَازُ الْمَذْهَبُ

اور ہم اس کے لئے سنہری نقش و نگار ہیں

أَفَلَتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشُمُوسُنَا

پہلے لوگوں کے سورج ڈوب گئے اور ہمارا آفتاب

أَبَدًا عَلَىٰ فَلَكَ الْعُلَىٰ لِأَتَّخِرُ

بلند آسمانوں پر بے کبھی نہیں غروب ہو گا



# قصیدہ عنایتیہ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے

سَقَانِي الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِي

عشق و محبت نے مجھے دس کے پیالے پلائے

فَقُلْتُ لِخَمْرِي نَحْوِي تَعَالِي

پس میں نے اپنی شراب کو کہا کہ میری طرف لوٹ آ

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُوُوْسِي

پیالوں میں (بھری ہوئی) وہ شراب میری طرف دوڑی

فَهَمْتُ بِسُكْرِي بَيْنَ الْمَوَالِي

پس میں اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب سمست ہو گیا



فَقُلْتُ لَسَائِرِ الْأَقْطَابِ لَسُّوْا

میں نے تمام اقطاب کو کہا کہ آپ بھی عنم کرو

بِحَالِي وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِحَالِي

اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ کیونکہ آپ بھی میرے رفقار ہیں

وَهَمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِي

خوب سیر ہو کر پیو کہ تم میرے شکاری ہو۔

فَسَاتِي الْقَوْمِ بِالْوَاغِي مَلَاِي

کیوں کہ ساتی قوم نے میرے لئے لبائب جام بھر رکھا ہے

شَرِبْتُمْ فُضِّلْتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرَتِي

میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی کھچی شراب پی لی

وَلَا يَنْلِئُكُمْ عَلْوِي وَابْتِصَالِي

لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پاسکے

مَقَامِكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَّلٰكِنْ

اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے پھر بھی



مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي

میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر اور ہمیشہ بلند رہے گا

أَنَا فِي حَضْرَتِ التَّقْرِيبِ وَحَدِيثِ

میں بارگاہِ الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں

يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا ہے اور خدا تعالیٰ مجھے کافی ہے۔

أَنَا الْبَازِيُّ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ

جس طرح باز ا شہب تمام پرندوں پر غالب ہے اسی طرح میں تمام

وَمَنْ ذَا فِي الرَّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِي

مشاریح پر غالب ہوں بتاؤ مردانِ خدایں کون جسکو مجھ جیسا مرتبہ عطا کیا گیا۔

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا

میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا۔

وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

اور میں نے خدا تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پایا۔



كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَارِ عَزْمٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر عزت کے پیل بوٹے تھے

وَتَوَجَّيْنِي بِبَيْتِجَارِ الْكَمَالِ

اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے۔

وَاطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا۔

وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُورًا لِي

اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا۔

طَبُورٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقَّتْ

میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجائے جاتے ہیں

وَمَشَاءُ وَسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَأَ لِي

اور نیک بختی کے نگہبان اور نقیب میرے لئے ظاہر ہوئے ہیں

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمِخْدَعُ مَقَامِي

میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ مخدع، خاص



وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجَالِي

مقام ہے اور میرے قدم اولسیار کی گردنوں پر ہیں۔

وَوَلَّيْتُ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا

اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قطبوں پر حاکم بنایا ہے۔

فَحُكْمِي نَاقِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ

پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا۔

كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ إِصْبَالٍ

تو وہ سب بل کر رائی کے دانہ کے برابر تھے۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَنَارٍ

اگر میں اپنے راز کو آگ پر ڈالوں۔

لَخَبِدَتْ وَأَنْطَفَتْ مِنْ سِرِّحَالِي

تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اسکا نام و نشان نہ ہے



وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْتَ مَيْتٍ

اگر میں اپنے راز کو مردہ پر ڈالوں ۔

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى

تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ

اور اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں ۔

لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسا ل جائیں گے کہ انہیں اور ریت میں فرقہ ہو

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ

اگر میں اپنا راز یا توجہ دریاؤں پر ڈالوں

لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ

تو تمام دریاؤں کا پانی خشک ہو کر زمین میں جذب ہو جائے اور کھانا اور نشاۃ ہے

وَمِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ

پہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں ۔



تَسْرُوتُنِّي وَتَقْضِي إِلَّا آتَانِي

بلاشک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں ۔

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَخَبْرِي

اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر دے

وَتَعْلِمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَائِي

اطلاع دیتے ہیں اے منکر کرامات مجھ کو اسے سے باز آؤ

يَلَادُ اللَّهُ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي

اللہ کے تمام شہر میرے ملک میں اور ان پر میری حکومت ہے اور میرا وقت

وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَا لِي

میرے دل کو پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا یعنی میری روٹی جانی جاتی پہلے ہی صاف

مُرِيدِي لَا تَخَفْ وَأَيْشِ فَإِنِّي

تمہی۔ اے میرے مرید! کسی بے خوف شہر سے نہ ڈر ۔

عَزُومُ قَاتِلُ عِنْدَ الْقِتَالِي

کیونکہ میں لڑائی میں اولوالعزم ہوں اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں



مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي

اے میرے مرید! کسی سے مت ڈر اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے

عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ السَّمَاوِي

اسنے مجھے وہ بلندی عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔

مُرِيدِي هُمْ وَطِيبٌ وَشَطْحٌ وَعَنِي

اے میرے مرید! شرار عشق الہی ہو اور خوش رہو اور بیباک ہو اور خوشی کے گیت گانا

وَأَفْعَلُ مَا تَشَاءُ فَإِلَّا سَمُوَعَالِي

اور جو چاہے کر کیوں کہ میرا نام بلند ہے۔

رِجَالِي فِي هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ

میرے آدمی سخت گرمی میں بھی روزہ دار ہیں۔

وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّيَالِي

اور اندھیری راتوں میں مثل گوہر نور بار ہیں۔

وَكُلُّ وِلِيٍّ لَّهُ قَدَمٌ وَرَائِي

ہر ایک ولی پر ایک قدم یعنی مرتبہ ہے اور میں سرکار دو عالم



عَلَى قَدَمِ السَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر ہیں۔

أَنَا الْجَيْلِيُّ مُحَمِّي الدِّينِ اسْمِي

میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے

وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجَبَالِي

اور میرے اعلیٰ میرا نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہتا ہے

وَعَبْدُ الْفَتَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي

اور عبد الفتاد میرا مشہور و معروف نام ہے

وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

اور میرے نانا پاک یعنی سرکار عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں

عَمَّتْ بِالْخَيْرِ



# چهل کاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا مہربان ہے

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمَا يَكْفِيكَ وَاكْفَهُ

كُفَا فُوَا كَكِيْمِيْنَ كَانْ مِنْ لُكَ كِ

تَكْرُ كَرَّا كَرَّا الْكُرِّي فِي كَبِدٍ!

تَحْكِي مُشْكِي شَكَّةً كَلُّكَ لَكَ كِ

كَفَاكَ مَا بِي كَفَاكَ الْكَافِ كُرْبَتَهُ

يَا كُو كِيَا كُنْتُ تَحْكِي كُو كَبِ الْفَلَكِ



## ہاری دیگر مطبوعات

حمد و نعت اور منقبتوں کا بالکل تازہ شاہکار

## نور و نکھت

پاکستان کے مشہور و معروف نعت گو شاعر پروفیسر فیاض کاوش صاحب کا مجموعہ کلام جس میں رب کریم کی حمد و ثناء کے نغمے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتوں کے رنگا رنگ گلہ سے اور اولیائے کالمین اور علماء ربانیین کی منقبتوں کے خوشنما ہار محبت بھرے انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔

اس مجموعہ کی زیادہ تعریف کیا کی جائے جبکہ ہمارے ملک کے

نامور اہل قلم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (پی۔ ایچ۔ ڈی)

نے اس پر تقدیم تحریر فرما کر اسے ہماری توصیف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آج ہی

منگوا کر پڑھیے اور اپنے قلب و روح کو تسکین بخشیے۔

کتابت چھپوائی عمدہ — کاغذ سفید — قیمت صرف چھ روپے

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ



# برقائیں اور تحفے

اہل ذوق حضرات کے لئے  
 — ایک نادر تحفہ —  
 قائد تحریک ختم نبوت علامہ ابوالحسن محمد احمد قادری  
 کے عشقِ مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے قلم سے

شرح

قصیدہ بردہ

• اردو زبان میں سب کے جامع اور مفید شرح  
 • قرآن و حدیث اور امام غزالی کی تحقیقات کے لبریز  
 • قصیدہ مبارکہ کے ہر لفظ کا آسان حل لغات  
 • ہر عمل مستند واقعات اور مرزوں اشعار  
 • انداز بیان نہایت سگفتہ اور عمدہ۔  
 کتابت و طباعت، آئیٹھ صفحات: ۲۰۰  
 کاغذ: اعلیٰ قیمت جلد / ۱۸ روپے

جلد مضبوط ڈالی دار

اہل دل حضرات کے لئے  
 امام ابوحنیفہ کی ایک نادر یادگار  
 جامع شریعت و طریقت مولانا محمد اعظم رحمتی  
 کے حقیقت نگار قلم سے

شرح قصیدہ

امام اعظم

• بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کا گلستا  
 • عربی اشعار کا اردو منظم اور نثر میں بہترین ترجمہ  
 • قرآن و سنت اور علماء دین کے ارشادات  
 سے مدلل شرح۔  
 • ہر حنفی کیلئے لاجواب ستاویز اور قیمتی ذخیرہ ہے۔  
 کاغذ اعلیٰ سفید۔ طباعت: آئیٹھ

سائز ۲۰ x ۳۰ / ۱۶

۳ روپے

قیمت

اسلامی کتب خانہ - اقبال روڈ سیالکوٹ



# ارکان دین

۵/۲۵ روپے

درکن دین : حصہ اول،

توضیح العقائد اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان

کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

۶/۱ روپے، مجلد ۲۵/۸ روپے

درکن دین : حصہ دوم،

کتاب الفلوات ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام

دنوں اور سال بھر کی نقلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

۵/۲۵ روپے

درکن دین : حصہ سوم،

کتاب الزکوٰۃ زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی

کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

مجلد ۱۰/۵ روپے

درکن دین : حصہ چہارم،

کتاب الصوم رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و

مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

مجلد ۱۵ روپے

درکن دین : حصہ پنجم،

کتاب الحج حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل

کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ٹائٹل چلڈ رنگا — طباعت عمدہ، کاغذ سفید

## اسلامی کتب خانہ

اقبال روڈ سیالکوٹ



## وصال احمدی

یہ کتاب تین رسائل کا مجموعہ ہے، ۱۱، وصال احمدی۔ اس میں امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے آخری ایام کے مستند حالات و واقعات درج ہیں۔ ایک کالم میں اصل فارسی اور دوسرے کالم میں اردو ترجمہ ہے۔ ۱۲، شجرہ عالمی نقشبندیہ۔ اس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر مترجم وصال احمدی کے پیرو مرشد تک نقشبندی بزرگوں کے مختصر حالات، ولادت اور وصال کی تاریخیں اور جائے مزارات درج ہیں۔ ۱۳، نسب نامہ مجددیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک نظم میں پیش کیا ہے قابل دید کتاب ہے۔ کتابت اور چھپوانی عمدہ۔ کاغذ سفید۔ قیمت - ۲/۰

## منظر العقائد

اسلامی عقائد سے واقفیت حاصل کرنا صحیح مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ طلبہ و طالبات اور کم فرصت والے کاروباری حضرات کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (پی ایچ ڈی) نے اس کتاب میں اسلامی عقائد بڑے آسان پیرائے میں سوال و جواب کے طرز پر مرتب فرمائے ہیں۔ خود مطالعہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ قیمت صرف ۲/۰

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

(ماسٹر بیس لاہور)



# ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ ستلوٰۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۸/۲۵ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفل نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوال

کتابِ الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابِ الصیام (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵۰ روپے

رمضان المبارک اور یورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے حوالہ و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ڈائمیٹل چار رنگا — طباعت عمدہ ، کاغذ سفید

اسلامی کتب خانہ ○ اقبال روڈ سیالکوٹ